


SODIUM CITRATE PENTAHYDRATE	سوڈیم سٹریٹ پینٹا ہائیڈریٹ		ICSC: 1220
CAS # 6858-44-2 RTECS # UN # EC # EINECS# UN Hazard class:	<p>دیگر نام : Trisodium citrate pentahydrate Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, trisodium salt, pentahydrate-2 فارمولا: $C_6H_{15}Na_3O_{12} / C_6H_5Na_3O_7 \cdot 5H_2O$ سالماقی وزن: 348.2</p>		
ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قابو پانا	ہچاؤ	شدید خطرات \ علامات	خطرے کی قسم
پانی کا سپرے، پاؤڈر	کھلے شعلے اور سگریٹ نوشی منع ہیں۔	جلنے والا مادہ۔	آگ:
			دھماکہ:
			جسم میں داخلہ:
تازہ ہوا میں لے جائیں، آرام دلائیں	ہوا کی آمدورفت (پاؤڈر کی صورت میں نہیں)	کھانسی گلے کی خرابی	سانس کے راستے:
پانی بہائیں پھر جلد کو پانی اور صابن سے دھوئیں			جلد کے راستے:
جلے کئی منٹ تک پانی سے اچھی طرح دھوئیں پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔	حفاظتی چشمے استعمال کریں	سرخی۔	آنکھوں میں پڑنا:
پانی سے منہ اندر سے صاف کریں۔	کام کے دوران خوردونوش اور سگریٹ نوشی مت کریں		نگلنے کی صورت میں:
پیکٹ کرنا اور لیبل لگانا:		بکھرنے کی صورت میں اقدامات:	
			گرے ہوئے مادے (ڈبوں یا برتنوں میں اکٹھا کریں) پہلے نم کر لیں تاکہ گرد نہ اٹھے بقیہ مادے کو وافر مقدار میں پانی سے صاف کر دیں۔
ذخیرہ کرنا:		ہنگامی اقدامات:	
اس کو اچھی طرح بند رکھیں			
اہم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں			

SODIUM CITRATE PENTAHYDRATE	سوڈیم سٹریٹ پینٹا ہائیڈریٹ	ICSC: 1220
اہم معلومات		
<p>جسم میں داخلے کے راستے: یہ مادہ جسم میں اس کے ذرات کے سانس میں جانے سے نکلنے پر جذب ہو سکتا ہے</p> <p>سانس کے راستے داخلے کے اثرات: 20 سنٹی گریڈ پر تنجیر برائے نام ہوتی ہے لیکن بکھیرنے پر ہوا میں ذرات کی مقدار تیزی سے تکلیف دہ حد کو چھو سکتی ہے</p> <p>مختصر مدت کے لیے جسم میں داخلے کے اثرات: آنکھوں میں اور سانس کی نالی میں سوزش پیدا ہوتی ہے</p>	<p>طبعی حالت: ٹھوس مادہ مختلف اشکال میں</p> <p>کیمیائی خطرات: اس کا پانی میں محلول کمزور اساس سے ہوا میں مقررہ حدود: TLV معین نہیں کی گئی ہے</p>	
طبعی خواص		
	پانی میں حل پذیری (گرام فی 100 ملی لٹر): اچھی	
ماحولیاتی اعداد و شمار		
نوٹس (Notes)		
صحت پر اثرات دیر سے ظاہر ہو سکتے ہیں MAK موجود نہیں ہے لیکن اس بارے میں مواد موجود ہے		
مزید معلومات:		
LEGAL NOTICE	Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.	
© IPCS, CEC 1999		
IPCS International Programme on Chemical Safety		Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the Commission of the European Communities C IPCS, CEC 1999